

English	Urdu
Gatherings at home and large family events	گھر میں اجتماعات اور بڑی خاندانی تقریبات
There are no limits on visits to your home, however group sizes should not exceed 100 people.	آپ کے گھر آنے پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، تاہم گروہ میں 100 سے زیادہ افراد نہیں ہونے چاہئیں۔
You still need to maintain physical distancing of 1.5 metres and practise good hygiene.	آپ کو اب بھی 1.5 میٹر کی جسمانی دوری برقرار رکھنے اور اچھی حفظان صحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
Do not visit someone else's house if you or they are feeling unwell.	کسی اور کے گھر نہ جائیں اگر آپ یا وہ بیمار ہیں۔
While there are no longer restrictions for household visits, we must all be sensible when having people to our homes and put in place control measures.	اگرچہ اب گھروں میں آنے پر پابندیاں نہیں ہیں، لوگوں کو اپنے گھروں میں ٹہراتے وقت اور قابو پانے کے اقدامات کرتے وقت ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہئے۔
This includes knowing who is there and at what times, downloading the COVIDSafe app, joining Flu Tracker and participating in important Your Say Community Panel engagements and health surveys that will help the ACT respond as best as it can.	اس میں یہ جاننا بھی شامل ہے کہ وہاں کون ہے اور کس وقت ہے، COVIDSafe ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا، Flu Tracker میں شامل ہونا اور Your Say Community Panel کی مصروفیات اور صحت کے سروے میں حصہ لینا جس سے ACT کو بہترین ردعمل میں مدد ملے گی۔